


# SIMRISHAMN



Design and Quality  
IKEA of Sweden



**English**  
For indoor use only.

**English**  
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. If you are uncertain, please contact IKEA.

**Deutsch**  
Nur für den Gebrauch im Haus geeignet.

**Deutsch**  
Falls das äußere biegsame Kabel oder das Anschlusskabel dieser Beleuchtung beschädigt wird, darf es nur vom Hersteller, dessen Servicevertreter oder einer anderen qualifizierten Kraft ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken auszuschließen. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter von IKEA zur Verfügung.

**Français**  
Usage à l'intérieur uniquement.

**Français**  
Si le câble électrique de ce luminaire est endommagé, il peut être remplacé. Pour éviter tout danger, le remplacement doit impérativement être effectué par le fabricant, un représentant de celui-ci ou un réparateur agréé. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre magasin IKEA.

**Nederlands**  
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

**Nederlands**  
Als het snoer of de buitenste flexibele kabel van deze verlichting beschadigd is, mag deze uitsluitend door de fabrikant, diens service-agent of een andere vakman vervangen worden. Dit om eventuele risico's te vermijden. Neem bij twijfel contact op met IKEA.

**Dansk**  
Kun til indendørs brug.

**Dansk**  
Hvis det ydre, bøjelige kabel eller ledningen til lampen beskadiges, må den kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en anden kvalificeret person for at undgå farlige situationer. Kontakt IKEA, hvis du er i tvivl.

**Íslenska**  
Notist aðeins innandyra.

**Íslenska**  
Ef ytri sveigjanlega snúran í þessu ljósi er skemmd þarf að leita til framleiðandans, þjónustuaðila eða annars fagaðila til að skipta henni út fyrir nýja svo að hægt sé að fyrirbyggja að hætta skapist. Vinsamlegast hafðu samband við IKEA ef þú ert í vafa.

**Norsk**  
Kun for innendørs bruk.

**Norsk**  
Om kabelen eller ledningen til denne belysningen blir skadet, får den kun byttes ut av leverandøren, dennes serviceagent eller en annen kvalifisert fagmann for å unngå eventuell fare. Om du er usikker, vær vennlig å kontakte IKEA.

**Suomi**  
Vain sisäkäyttöön.

**Suomi**  
Jos valaisimen uloin, taipuisa kaapeli tai johto vioittuu, turvallisuusystä sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike. Jos sinulla on kysyttyvästä, ota yhteyttä IKEA-tavarataloon.

**Svenska**  
Endast för inomhusbruk.

**Svenska**  
Om den yttere böjliga kabeln eller sladden till denna belysning skadas, får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent eller annan behörig person, för att undvika eventuella risker. Om du är osäker, var vänlig kontakta IKEA.

**Český**  
Pouze pro vnitřní použití.

**Český**  
Je-li vnější přívodní kabel svítidla poškozen, musí být vyměněn pouze výrobcem, autorizovaným servisem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Nevíte-li, na koho se obrátit, kontaktujte obchodní dům IKEA.

**Español**  
Para usar únicamente en el interior.

**Español**  
Si se dañase el cable exterior flexible de esta lámpara, para evitar riesgos deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su representante o un electricista cualificado. Si no estás seguro, ponte en contacto con IKEA.

**Italiano**  
Solo per interni.

**Italiano**  
Se il cavo flessibile esterno o filo elettrico di questa illuminazione è danneggiato, può essere sostituito esclusivamente dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un elettricista qualificato, per evitare rischi. Se non sei sicuro, contatta il tuo negozio IKEA.

**Magyar**  
Beltéri használatra.

**Magyar**  
Ha a külső rugalmas vezeték vagy kábel megsérül, biztonsági okból csak szakember vagy a szerviz munkatársai végezhetik el a cserét. Ha bizonytalan vagy, hogy kihez fordulj, lépj kapcsolatba az IKEA áruházak Vevőszolgálatával.

**Polski**  
Tylko do użytku w pomieszczeniu.

**Polski**  
Jeżeli zewnętrzny przewód lampy ulegnie uszkodzeniu, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymiany może dokonać jedynie producent, jego przedstawiciel serwisowy lub inna wykwalifikowana osoba. W razie wątpliwości skontaktuj się z IKEA.

**Eesti**  
Ainult sisetingimustes kasutamiseks.

**Eesti**  
Kui selle valgusti välaine kaabel või juhe on kahjustatud, vahetab selle erilise juhtme vastu ainult tootja või tema esindaja, selleks, et vältida ohtlikke olukordi. Kui te ei ole kindel kelle poolle pöörduda, võtke esmalt ühendust IKEA poega.

**Latviešu**  
Lietošanai tikai iekštelpās.

**Latviešu**  
Lai izvairītos no riska, šīs lampas vadu/kabeļu bojājumus drīkst novērst tikai ražotājs, servisa pārstāvis vai cita kvalificēta persona. Šaubu gadījumā sazinieties ar IKEA veikalu.

**Lietuvių**  
Skirta naudoti tik viduje.

**Lietuvių**  
Jei lankstus kabelis ar laidas pažeistas, ji turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo atstovas ar kvalifikotas specialistas. Jei kils klausimų, kreipkitės į IKEA.

**Portugues**  
Apenas para usar no interior.

**Portugues**  
Se o cabo exterior flexível deste candeeiro se danificar, deverá ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu representante ou por uma pessoa qualificada, para evitar acidentes. Se tiver dúvidas, contacte a IKEA.

**Română**  
Se folosește doar la interior.

**Română**  
Dacă cablul electric al acestui corp de iluminat este deteriorat, va fi înlocuit numai de către producător sau de agentul de servicii al acestuia, sau de către o altă persoană specializată, pentru a evita accidentările. Dacă ai nelămuriri, contactează IKEA.

**Slovensky**  
Iba na vnútorné použitie.

**Slovensky**  
V prípade, ak sa vonkajší zdrojový kábel svietidla poškodí, je nutné, aby ho vymenil výrobca alebo jeho servisný zástupca, prípadne kvalifikovaný elektrikár tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Ak máte pochybnosti, obráťte sa prosím na IKEA.



## Български

Само за употреба на закрито.

## Български

Ако външният подвижен кабел на лампата бъде повреден, той трябва да бъде подменен единствено от производителя, негов представител или друго квалифицирано лице, за да се избегнат рискове. Ако имате въпроси, свържете се с IKEA.

## Hrvatski

Само за upotrebu u zatvorenom prostoru.

## Hrvatski

Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Ako niste sigurni, kontaktirajte IKEA robnu kuću.

## Ελληνικά

Για εσωτερική χρήση, μόνο.

## Ελληνικά

Εάν το εξωτερικό ευέλικτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού ωφαρεί, για την αποφυγή ατυχήματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις του ή από ένα άλλο ειδικευμένο άτομο. Εάν δεν είστε βέβαιοι, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με την IKEA.

## Українська

Лише для використання у приміщенні.

## Українська

Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур цього виробу пошкоджено, лише виробник, працівник його сервісної служби або фахівець подібної кваліфікації може його замінити, щоб запобігти нещасному випадку. Якщо у вас є сумніви, зверніться до IKEA.

## Srpski

Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

## Srpski

U slučaju da je spoljašnji fleksibilni kabl ili električni kabl ove svetiljke oštećen, njegovu zamenu treba da izvrši proizvođač, ovlašćeni serviser ili kvalifikovana osoba da bi se izbegao mogući rizik. Ako si u nedoumici, raspitaj se u robnoj kući IKEA.

## Slovenščina

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

## Slovenščina

Če se zunanjji pregibni kabel ali žica svetila poškoduje, ju lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena oseba. S tem se izognete nepotrebnim tveganjem. Za nasvet se obrni na najbližjo trgovino IKEA.

## Türkçe

Sadece iç mekan kullanımı içindir.

## Türkçe

Bu aydınlatmanın harici esnek kablosu veya kordonu zarar görürse, tehlikeden kaçınmak için üretici firma veya üretici firma yetkili servisi veya benzeri bir kişi tarafından değiştirilecektir. Emin değilseniz, lütfen IKEA ile temasla geçiniz.

## 中文

仅供室内使用。

## 中文

如果这种照明装置的外部软电缆或电线受到损坏，必须由制造商、其代理商或具有相近资质的人员进行更换，防止发生伤害事故。如有疑问，请联系宜家。

## 繁中

僅適用於室內。

## 繁中

如果燈具的外部電線受損，應由製造商、服務人員或相關的專業人員替換，以避免發生危險。如果不確定的話，請聯絡IKEA。

## 한국어

실내 전용

## 한국어

본 조명기구의 가요성 외부 케이블이나 코드가 손상되었을 경우 위험한 사고를 방지하기 위해 반드시 제조사, 지정 서비스 업체, 또는 전문가에 의해 교체되어야 합니다. 필요한 경우 IKEA에 문의해 주세요.

## 日本語

室内専用

## 日本語

この照明器具の外部ケーブルやコードが破損した場合は、修理に伴う事故を避けるため、必ず製造元のメーカーや代理店、電気工事店などに部品交換を依頼してください。ご不明な点がございましたら、 IKEAにお問い合わせください。

## Bahasa Indonesia

Untuk kegunaan dalam bangunan saja.

## Bahasa Indonesia

Jika bagian luar kabel fleksibel atau kabel sambungan untuk penerangan ini rusak, maka harus digantikan oleh pabrik pembuat atau agen pelayananannya atau orang yang berkualifikasi agar terhindari dari bahaya. Bila anda ragu, silahkan hubungi IKEA.

## Bahasa Malaysia

Untuk kegunaan dalam bangunan sahaja.

## Bahasa Malaysia

Jika kabel atau kord fleksibel luaran bagi lampu ini telah rosak, ia patut diganti secara eksklusif oleh pengeluar atau ejen perkhidmatannya atau individu yang berkelayakan agar bahaya dapat dielakkan. Jika anda tidak pasti, sila hubungi IKEA.

**عربى**  
للاستخدام الداخلى فقط.


**عربى**  
إذا تضرر السلك أو السلك الخارجي المرن لهذه الانارة، يجب استبداله بشكل حصري من قبل المصانع أو وكيل خدمته أو شخصاً مؤهلأً مماثلاً لتفادي الخطأ. إذا لم تكن واثقاً، الرجاء الإتصال بنايكيا.




## ไทย

สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น


## ไทย

หากสายไฟเบื้องนอกหลังโคมไฟชำรุดเสียหาย ควรเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตตัวแทนผู้ให้บริการของผู้ผลิต หรือ ช่างไฟที่ชำนาญ เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนสายไฟเอง หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้จากฝ่าย IKEA ใกล้บ้าน







**1**





# 2




**3**




**4****5**



# 6






**7**



**8**



**9**



**10**

